



غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیکو کار ہو تو اس کے دو ثواب ملتے ہیں

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نیکوکار مملوک غلام کے لیے دو اجر ہیں“
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر جہاد
فی سبیل اللہ، حج اور اپنی ماں کی خدمت میں سامنے نہ ہوتی تو مجھے یہ پسند ہوتا کہ میں غلامی کی
حالت میں مروں
[صحیح] [متفق علیہ]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایسے غلام کے لیے دو اجر ہیں جو اپنے مالک کا
خیر خواہ اور اپنے رب کے حقوق کو قائم کرنے والا ہو، ایک عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اور
دوسرے آقا کی خدمت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی وجہ سے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر غلام
پر جہاد ہوتا اور مجھ پر اپنی والدہ کے خرچے اور خدمت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو مجھے غلام رہ کر مرنا زیادہ
پسند تھا اس پر ملنے والا اجر کی خاطر

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6388>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

